

Psa

Chapter 66

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1
ل-موسیقی-کے-سالار گیت مزمور خوشی-سے-للاکارو ل-خدا-کو سب ہ-زمین
H5329 H4210 H7321 H0430 H3605 H0776

کیراسرائی مدح کی اللہ کر لگا نعرے کے خوشی زمین، ساری اے گیت۔ زبور۔ لئے۔ کے راہنما کے موسیقی

2
زمرہ کاؤ کبوتر- جلال اُس-کے-نام-کا رکھو شیمو جلال اُس-کی-حمد-کو
H2167 H3519 H8034 H3519 H8416

جاؤالے تک عروج ستائش کی اُس کرو، تمجید کی جلال کے نام کے اُس

3
آمرہ کہو ل-خدا-کو کیا بیبت-ناک تیرے-کاموں ب-کثرت تیری-طاقت-کی خوشامد-کرتے-ہیں ل-تیرے
H0559 H0430 H4100 H3372 H4639 H7230 H5797 H3584

آبیر:

تیرے-دشمن
H0341

ہیں۔ لگتے کرنے خوشامد تیری کر دہک دشمن تیرے سامنے کے قدرت بڑی تیری ہیں۔ پُر جلال کتنے کام [تیرے کہو، سے اللہ

4
کب- سب ہ-زمین سجدہ-کے-گی ل-تیرے ل-تیرے و-گائیں-گے ل-تیرے گائیں-گے زمرہ تیرے-نام-کو سلہ
H3605 H0776 H7812 H2167 H2167 H8034 H5542

(بیلہ) (کے۔) ستائش کی نام تیرے گائے، گیت میں تعریف تیری وہ کرے! سجدہ تجھے دنیا تمام

5
لبن و-دیکھو اورا موفعات خدا-کے بیبت-ناک فعل پر بنی آدم
H3212 H7200 H0430 H5949 H0120

ہیں! کئے معجزے پُر جلال کتنے نے اُس خاطر کی زاد آدم دیکھو! کام کے اللہ اُو،

6
ہم-نے-بدل-دیا سمندر-کو ل-خشکی ل-بہ-دربا-سے وہ-گزرے پ-پیر وہاں ہم-نے-خوشی-منائی پ-اُس-میں
H2015 H3220 H3004 H5104 H7272 H8033 H8055

منائیں۔ خوشی کی اُس ہم اُو، چنانچہ گزرے۔ ہی پیدل لوگ سے وہاں تھا بہاؤ تیز کا پانی پہلے جہاں دیا۔ بدل میں زمین خشک کو سمندر نے اُس

7
حکومت-کرنے-والا پ-اپنی-طاقت-سے ہمیشہ اُس-کی-آنکھیں پ-ہ-قوموں-پر نگرانی-کرتی-ہیں ہ-سرکش
H4910 H1369 H5769

آل- مت [اپنے-آپ-کو-بلند-کریں] (بلند-ہوں) ل-اپنے-آپ-کو سلہ
H0408 H5542

(بیلہ) (اُنہیں۔ نہ خلاف کے اُس سرکش تاکہ ہیں رہتی لگی پر قوموں آنکھیں کی اُس ہے۔ کرتا حکومت تک ابد وہ سے قدرت اپنی

8 **בָּרְכוּ** **אֲנִי** **אֱלֹהֵינוּ** **יְהוָה** **קוֹל** **הַהַלְלוּ:**
 مبارک-کہو قومی ہمارے-خدا-کو و-سناؤ آواز اُس-کی-حمد-کی
[H1288](#) [H0430](#) [H8085](#) [H8416](#)

دے۔ سنائی تک دُور ستائش کی اُس کرو۔ حمد کی خدا ہمارے اُمتو، اے

9 **הַשֵּׁם** **נִפְשֵׁנוּ** **בְּחַיִּים** **וְלֹא-** **נָתַן** **לְמוֹת** **רַגְלֵנוּ:**
 ۵-رکھنے-والا ہماری-جان-کو ب-۵-زندگی-میں و-نہیں دیا ل-ڈگمگانے ہمارے-پیر-کو
[H5315](#) [H3808](#) [H5414](#) [H4132](#) [H7272](#)

دیتا۔ نہیں ڈگمگانے کو پاؤں ہمارے رکھتا، قائم زندگی ہماری وہ کیونکہ

10 **כִּי-** **בְּחַנְתָּנוּ** **אֱלֹהִים** **זָרְפָּתָנוּ** **בְּצָרָה-** **כֶּסֶף:**
 کیونکہ ٹو-نے-ہمیں-آزمایا خدا ٹو-نے-ہمیں-تایا ک-تانا چاندی-کو
[H0974](#) [H0430](#) [H6884](#) [H6884](#) [H3701](#)

بے۔ دیا کر صاف پاک ہمیں نے ٹو طرح اُسی بے جاتا کیا صاف کر پگھلا کو چاندی طرح جس آزمایا۔ ہمیں نے ٹو اللہ، اے کیونکہ

11 **הַבִּאתָנוּ** **בְּמַצֹּרָה** **שָׁמַתָּ** **מוֹעֲדָה** **בְּמַחְנֵינוּ:**
 ٹو-نے-ہمیں-لایا ب-۵-جال-میں ٹو-نے-رکھا بوجھ ب-ہماری-کمر-پر
[H0935](#) [H4157](#) [H4975](#)

دیا۔ ڈال بوجھ ناک اذیت پر کمر ہماری دیا، پھنسا میں جال ہمیں نے ٹو

12 **הִרְכַּבְתָּ** **אֲנֹשׁ** **לְרֹאשֵׁנוּ** **בְּאֲנוּ-** **בְּאֵשׁ** **וּבְכִיִּים** **אֲתוֹצִיאָנוּ** **לְרִנָּה:**
 ٹو-نے-سوار-کیا انسان-کو ل-ہمارے-سر-پر ہم-آئے ب-۵-آگ-میں و-پ-۵-پانی-میں و-ٹو-نے-ہمیں-نکالا ل-فراغت
[H7392](#) [H0582](#) [H0935](#) [H0784](#) [H4325](#) [H3318](#) [H7310](#)

جگہ کی فراوانی کر نکال سے مصیبت ہمیں نے ٹو پھر لیکن گئے۔ آ میں زد کی پانی اور آگ ہم اور دیا، گزرنے سے پر سروں ہمارے کو رتھوں کے لوگوں نے ٹو پہنچایا۔

13 **אָבִיזָא** **בֵּיתְךָ** **בְּעוֹלוֹת** **אֲשֵׁלָם** **לְךָ** **נִדְרָי:**
 میں-آؤں-گا تیرے-گھر-میں ب-سوختنی-قربانیوں میں-ادا-کروں-گا ل-تیرے اپنی-منتیں
[H0935](#) [H5088](#)

گا، کروں پوری منتیں اپنی حضور تیرے اور گا آؤں میں گھر تیرے کر لے قربانیاں والی ہونے بھسم میں

14 **אֲשֶׁר-** **פָּצוּ** **שִׁפְתָי** **וּדְבַר-** **פִּי** **בְּצָר-** **לִי:**
 جو کھولے میرے-ہونٹھ و-بولا میرا-منہ ب-۵-تنگی-میں ل-میرے
[H6475](#) [H8193](#) [H1696](#) [H6310](#)

تھیں۔ مانی وقت کے مصیبت نے منہ میرے جو منتیں وہ

15 **עֲלֹת** **מַחִים** **אֲעֲלֶה-** **לְךָ** **עִם-** **קַטְרֹת** **אֵילִים** **אֲעֲשֶׂה**
 سوختنی-قربانیاں موٹے-جانوروں-کی میں-چڑھاؤں-گا ل-تیرے ساتھ خوشبو میٹھوں-کی میں-تیار-کروں-گا
[H4220](#) [H5927](#) [H7004](#)

בָּקָר **עִם-** **עֲתוּדֵי־** **סֶלָה:**
 بیل ساتھ بکروں سلہ
[H1241](#) [H6260](#) [H5542](#)

(سلہ) گا، چڑھاؤں بھی بکرے اور بیل ساتھ ساتھ گا، کروں پیش دھواں کا مینڈھوں اور بھیڑیں تازی موٹی تجھے میں پر طور کے قربانی والی ہونے بھسم

16 **לְכוּ-** **שָׁמְעוּ** **וְאִסְפְּדָה** **כָּל-** **יְרֵאֵי** **אֱלֹהִים** **אֲשֶׁר** **עָשָׂה** **לְנַפְשִׁי:**
 آؤ سنو و-میں-بیان-کروں-گا سب ڈرنے-والو خدا-سے جو اُس-نے-کیا ل-میری-جان-کے
[H8085](#) [H3212](#) [H3605](#) [H3373](#) [H0430](#) [H5315](#)

گا۔ سناؤں تمہیں وہ کیا لے کے جان میری نے اللہ کچھ جو سنو! اور آؤ والو، ماننے خوف کا اللہ اے

17 אֱלֹהֵי פִי- קָרָאתִי יְרוּמָם תַּחַת לְשׁוֹנִי:
 إِلَهِ مِيرَا-مَنه مِيں-نَے-پَکارا وَ-بَلَدِي نِيچَے مِيرِي-زبان-کَے
 H0413 H6310 H7121 H7318 H8478 H3956

تھی۔ تیار لئے کے کرنے تعریف کی اُس زبان میری لیکن پکارا، اُسے سے منہ اپنے نے مَیں

18 אָנּוּ אִם- רְאִיתִי בְּלִבִּי לֹא אִשְׁמַע אֲדַבֵּר:
 بدی اگر مِيں-نَے-دِيکھا-بوتا ب-اپنے-دل-مِيں نَہِيں سَنتا خدائوَنَد
 H0205 H7200 H3808 H8085 H0136

سنتا۔ نہ میری رب تو کرتا پرورش کی گناہ میں دل مَیں اگر

19 אָכֵן יָקִינָא שְׁמַע אֱלֹהִים הִקְשִׁיב בְּקוֹל תַּפְלִתִּי:
 یقیناً سنا خدائے اُس-نَے-توجہ-کی ہ-آواز مِيرِي-دعا-کی
 H0403 H8085 H0430 H7181 H8605

دی۔ توجہ پر التجا میری نے اُس سنی، میری نے رب یقیناً لیکن

20 בְּרוּךְ אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא- הָסִיר תַּפְלִתִּי יְחַסְדּוֹ מֵאֲתִי:
 مبارک-ہے خدا جس-نَے نَہِيں بنایا مِيرِي-دعا-کو وَ-اپنی-شفقت-کو مَن-مَجھ-سَے
 H1288 H0430 H3808 H5493 H8605 H0854

رکھی۔ باز سے مجھ شفقت اپنی نہ کی، رد دعا میری نہ نے جس ہو، حمد کی اللہ